

Ndila dza u shumisa bugu ya mugudi

Vhagudi vha guda nga shango line vha dzula khalo. Vha shumisa zwipfi zwavho zwa u vhona, u pfa, midzinginyo ya muvhili, maipfi na zwithusedzi zwa u guda hu u itela u khwiṅisa vhukoni havho ha kuhumbulele na u pfesesa. U guda uhu hu dovha hafhu ha khwiṅiswa nga kushumisele kwone kwa zwithusedzi zwa u guda na u funza nga mugudisi. Zwithusedzi zwa u guda zwi dovha hafhu zwa thusa vhagudi nga u khwiṅisa nyelelo yavho na u humbula zwithu zwe vha guda. Ngano, zwidade na zwiṭori zwi thusa vhagudi u pfesesa na u humbula. Vhagudi vha dovha hafhu vha thusiwa nga ngudo dza u anetshela zwiṭori hune u bulwa ha miungo na maipfi zwa bveledza divhaipfi yavho. Ndi zwa vhuṭhogwa uri vha thuse vhagudi hune vha vha vha songo pfesesa zwavhuḍi ndaela, nga maanḍa kha ngudo dzi si gathi dza mathomoni. Mugudisi u ṭuṭuwedzwa u ḍa na zwithusedzi zwa u funza na u guda zwo teaho uri zwi ḍo khwiṅisa kufunzele kwawe. Dzitshati na zwifanyiso na zwone zwi a thusa arali ngudo i tshi ḍo vha yo bvelelaho na u vhuedza kha vhagudi.

Kha vha elelwe: Zwikili zwa ndeme zwa u vhala na u ṅwala ndi zwi tevhelaho:

1. Miungo (mudzinginyo wa muvhili, zwanḍa, nayo, zwifanyiso, zwiga, nz.).
2. U topola miungo maipfina.
3. U ṭanganyisa miungo, u bula na u vhumba maipfi na zwivhumbeo.
4. U guda miungo na kubulele kwayo.
5. U ṅwala miungo na maipfi.

Kha vha tevhedzele ndaela!

Aikhono dzi re afho fhasi dzi thusa mugudisi na vhagudi u khwiṅisa kushumisele kwavho kwa bugu kha ngudo iṅwe na iṅwe.



Mugudisi/Muthusi u vhalela na u ṭalutshedza vhagudi.



U sedza/u lavhelesa – Vhagudi vha nanga na u topola maipfi.



Penisela – vhagudi vha a ṅwala.



U amba – Vhagudi vha vhala vha tshi dovholola maipfi na u fhindula mbudziso.



U ṭoda na u wana – Vhagudi vha ṭoda zwithu kana maipfi.



Penisela dza mivhala – Vhagudi vha ola zwifanyiso na u dzhenisa muvhala.



Vhagudi vha ita mushumo.



Vhagudi vha vhanda zwanḍa musi vha tshi khou vhalela kana u imba.



U swaya – Vhagudi vha a swaya kana vha dzhenisa tshiga kha phindulo ye vha nanga.

Mvulatswinga ṭhukhu dzine dza dovha dza vha pfufhi:

Ngudo ya 1: Nngu yo xelaho

Mugudisi: U sumba kha tshifanyiso tsha nngu a ri: “Ipfi ili li ri ‘nngu’.” Ipfi ili li na muungo wa ‘ng’. Kha vha humbele vhagudi uri vha bule muungo uyu vha tshi edzisela vhone. Vhagudi vha tea u edzisela muungo une nngu ya u ita. Vha tea u dovha hafhu vha edzisela kutshimbilele kwa nngu. Kha vha sumbe ipfi “mulisa”. Kha vha vhudzise vhagudi zwine mulisa a shuma zwone.

Mushumo: Kha vha vhalele na u ṭalutshedza vhagudi tshiṭori. Kha vha tendele vhagudi u tamba tshiṭori itshi. Kha vha nange mulisa kha vhagudi. Kha vha ṭalutshedze vhagudi uri zwi vhavha hani u xelelwa nga tshithu tshine wa tshi funa. Vha nga shumisa zwithu zwi fanaho na zwienda, mukhwama wa bugu

kana bugu u sumbedza uri zwi vhavha hani u xedza tshithu tsha ndeme. Vhagudi vha tea u sedza uri dzina la “nngu” lo dovhololwa lungana tshitorini.

Luambo: Kha vha funze nga zwifhinga zwo fhambanaho (Tshifhinga tsha zwino na tsho fhelaho). Kha vha khethekanye kilasi yavho i bve zwigwada zwivhili. Tsha u thoma tshi vhe tsha tshifhinga tsha zwino ngeno tsha vhuvhili tshi tsha tshifhinga tsho fhelaho. Kha vha vhale mafhungo vha kone u nea zwigwada tshikhala tsha u amba mafhungo nga murahu havho.

U vhalala Bivhili: Kha vha vhale tshitori tsha Bivhilini vha ite na u talutshedza he zwa tea. Kha vha shumise tshifhinga itshi nga u imba na u rabela navho.

U vhalala na u nwala: Vhagudi vha fhedzisa maipfi e a nwaliwa nga tshivhumbeo tsha zwithoma. Vha nga shumisa bugu dzavho dza ndowedzo arali tshikhala tshi sa lingani ngomu buguni dzavho dza mushumo. Vha tea u thoma nga u nwala maipfi muyani, kha desike, kana mavuni zwaho arali ngudo i tshi khou farelwa nnda vha sa athu u nwala buguni dzavho.

Mushumo: Kha vha vha funze luimbo: “Tshifhambano tshavhuḏi”.

Vha nga ḏi vha funza luimbo luḏwe na luḏwe lu elanaho na ngudo.

Ngudo ya 2: Sheleni yo xelaho

Mugudisi/Muthusi: U sumba kha ipfi li re tshibogisini, “sheleni”. Kha vha bule ipfi ili nga kubulele kwone vha humbele vhagudi uri vha li dovholole vha tshi edzisela vhone. Kha vha ite zwenezwo hafhu na kha ipfi “ngwana”.

U vhalala tshitori: Kha vha khwinise kuhumbulele kwavho. Kha vha vhande zwanda zwavho vha vhalele u bva kha 1 – 10. “Musadzi o takala zwino.” Ndi ngani o takala? Kha vha vha sumbedze uri vhatu vho takalaho vha vha vho itisa hani. (Kha vha shumise tshifhangu tshavho u sumbedza u tungufhala na u takala.)

Luambo: Kha vha ombedzele phambano vhukati ha vhuthihi na vhunzhi. Tsumbo: sheleni – masheleni.

U dzhenisa muvhala: Vhagudi vha tea u dzhenisa muvhala kha nyolo dzi re bammbirini.

U vhalala: Vhagudi vha tea u vhalala mafhungo a re mafheloni a bammbiri.

U nwala: Vhagudi vha tea u fhedzisa mushumo.

U vhalala Bivhili: Vhagudi vha vhalala tshitori tsha Bivhilini tsho teaho vha rabela.

Ngudo ya 3: Mulisa wa ndele

Mugudisi/Muthusi: Kha vha sumbe kha Tshifanyiso tsha tarelwa vha humbele vhagudi uri vha vha vhudze zwine vha khou vhone. Vhagudi vha tea u ri “tarelwa” nga murahu ha vhone. Kha vha vha sumbedze tshifanyiso tsha muḏango. Kha vha bule ipfi “muḏango” vha humbele vhagudi uri vha bule ipfi nga murahu ha vhone. Vha tea u vha vha tshi khou sumba ipfi musi vhagudi vha tshi khou li bula.

Luambo: Vhagudi vha tea u amba nga tshifhinga tsha zwino na tshifhinga tsho fhelaho. Mugudisi u tea u nea vhagudi tsumbo dzi ngaho: Ndi khou la zwiliwa. Matshelo ndi ḏo la zwiliwa.

U tḏa maipfi: Vhagudi vha tḏa maipfi kha giridi.

U vhalala Bivhili: Vhagudi vha vhalala tshitori tsha Bivhilini tsho teaho vha rabela.

U vhalala: Vhagudi vha vhalala vha nwala maipfi o nwalwaho kha zwithoma.

Mushumo: Vhagudi vha tamba litambwa la tarelwa.

Ngudo ya 4: Murwa we a vha o xela

Mugudisi/Muthusi: Kha vha sumbe kha tshifanyiso tsha khotsi vha bule ipfi “khotsi” vha mbo ḏi humbela vhagudi uri vha vha edzisele nga u bula ipfi ilo. Kha vha sumbe kha tshifanyiso tsha “murwa” vha mbo ḏi humbela vhagudi uri vha vha edzisele nga u bula ipfi ilo. Kha vha humbele vhagudi u bula muungo wa “kh” na wa “m”. Kha vha humbele vhagudi uri vha ambe maipfi a re na miungo iyi. Kha vha vhale tshitori vha humbele vhagudi uri vha vhale tshitori vha tshi edzisela vhone. Vha tea u tamba litambwa la tshitori itshi. Kha vha khwaḏisedze uri muḏwe na muḏwe u wana tshikhala tsha u tamba litambwa.

Luambo: Kha ri dzhenise maipfi o t̄ahelaho.

Mushumo: Kha ri tevhedze ndaela.

U vhalala: Kha ri vhale mafhungo.

U n̄wala: Kha ri fhedzise maipfi o n̄walwaho nga zwithoma.

Ngudo ya 5: Ndi nnyi ane nda nga muthusa?

Mugudisi/Muthusi: Kha vha sumbe kha tshifanyiso tsha mbongola vha humbele vhagudi uri vha vha vhudze zwine vha khou vhone. Vha tea uri “mbongola” nga murahu ha vhone. Vha tea u bula mungo “mb”. Kha vha vha sumbedze tshifanyiso tsha mufunzi vha vha vhudzise zwine vha zwi d̄ivha nga mushumo wawe. Kha vha vhale tshiṭori.

Mushumo: Kha vha tendele vhagudi vha tambe j̄itambwa nga tshiṭori. Kha vha vha t̄alutshedze nga vhuḍi ha u dzulisana zwavhuḍi na vha hura.

Luambo: Vhagudi vha tea u nanga phindulo yone nga u swaya tsini nayo. Kha vha vha khethekanye vha bve zwigwada zwivhili vha vha humbele uri vha fhindule mbudziso. Kha vha vhone uri zwigwada zwi wana tshivhalo tsha mbudziso tshi linganaho.

Mushumo: Vha tea u d̄adza nga maipfi o t̄ahelaho.

U vhalala: Vha vhalala mafhungo.

U n̄wala: Vha fhedzisa maipfi o n̄walwaho nga zwithoma.

Ngudo ya 6: Kha ri dzulele u shuma ro d̄iimisela

Mugudisi/Muthusi: Kha vha sumbe kha tshifanyiso tsha sheleni vha vha humbele vha vha edzisela nga u bula ipfi. Kha vha vha tendele vha tshi amba nga masheleni vha dovhe vha vha vhudzise mbudziso. Kha vha vha t̄alutshedze ipfi “mushumi”. Kha vha bule ipfi vha humbele vhagudi uri vha vha edzisele.

U vhalala: Kha vha vhee zwifanyiso na mafhungo azwo vha tendele vhagudi vha tshi vhalala mafhungo. Kha vha livhuwe mushumo wo itiwaho zwavhuḍi nga u vha n̄ea n̄aledzi.

U vhalala Bivhili: Vha vhalala tshiṭori tsha Bivhilini vha rabela.

U n̄wala: Vha n̄wala maipfi kha mutalo wa zwithoma.

Luambo: Vha d̄adza maipfi o t̄ahelaho. Vha livhanyisa maipfi na nomboro dzo teaho.

Nḡila dza u khwiṅisa luambo.

- Vhagudi vha n̄wala muyani na mavuni vha tshi shumisa minwe yavho
- Vha dzudzanya mafhungo nga mutevhe wone
- Mbudziso: Kha vha vhudzise mbudziso dzine dza vha na ngafhi? Lini? Ngani? Hani? na Mini?
- Zwiga na zwine zwa amba zwone: tsumbo. Tshifhambano tshitswuku na zwine tsha amba zwone. Tshi amba uri “hai”. Mugudisi a nga d̄a na zwiga zwiṅwe, a amba nga hazwo na vhagudi khathihi na u t̄alutshedza zwine zwa amba zwone.
- Tshati dza maipfi dzo vhwaho luvhondoni
- U vhandala zwandala na u vhalela miungo
- Garaṭatai
- U ola
- U fhedzisa miungo
- U vhalela: Vhagudi vha vhalela mafhungo na mitalo zwi re tshiṭorini. Mugudisi u tea u vhudzisa mbudziso dzi ngaho, “Muungo wa u thoma na wa u fhedzisela wa ipfi ili ndi ufhiyo?”
- Vhagudi vha anetshela tshiṭori tshe vha tshi vhalala kana tshe vha tshi pfa
- Vhagudi vha vhalala khathihi na mugudisi
- Vhagudi vha guda u bula maipfi nga nḡila yone
- Vhagudi vha gudiswa u shuma nga zwigwada

Kha vha dzhiele nzhele: Vha songo t̄avhanyela u t̄oda u vhona vhagudi vhavho vha tshi kona u vhala zwavhuḁi. Kha vha vha nee tshifhinga tsha u guda zwavhuḁi vha sedze uri vhagudi vha kha tshiimo tshifhio tsha u vhala. Kha vha sedze zwine vha kona u ita nga tshifhinga tshikene vha vha funze dziḁwe khontseputhi u bva kha zwine vha vho zwi ḁivha. Kha vha vha livhuwe kha zwine vha kona u zwi ita. Izwi zwi ḁo khwiḁisa vhuḁifulufheli havho khathihi na u vha nea mafufufulu a u guda zwinzhi.

Ngudo ya 7: U zwala mbeu

Mugudisi/Muthusi: Vhagudi vha guda nga tshifhinga tsha zwino na tsho fhelaho. Kha vha t̄ut̄uwedze vhagudi u vhumba mafhungo nga zwe vha guda vha tshi shumisa zwifhinga izwi.

Vhagudi vha amba nga tshiḁori tsha muzwali, mbeu na fhethu ho fhambanaho he mbeu ya wela hone:

- Ndilani
- Lukwarani
- Mipfani
- Mavuni avhuḁi

Kha vha t̄alutshedze vhagudi nga ha ngudo ya tshifanyiso tshe tsha shumiswa nga Yesu.

Kha vha thome therisano nga ha u zwala

- Lufuno
- Tshilidzi
- U fulufhedzea

Kha vha vhone uri vhagudi vhoḁhe vha a shela mulenzhe kha therisano. Kha vha vha t̄ut̄uwedze uri vha ye vha thome u lima ngadeni dzavho mahayani avho. Kha vha vha t̄alutshedze uri vha nga t̄avhisa hani na u sheledza zwimela zwavho.

Ngudo ya 8: Miri yavhuḁi i aḁwa mitshelo yavhuḁi

Mugudisi/Muthusi: Vhagudi vha fhindula mbudziso dzi re buguni. Vha nga vha vhudzisa dziḁwe mbudziso dzo teaho dzi sa bvi buguni. Vha tea u fhindula nga “Ee” kana “Hai”.

Therisano: Vhagudi vha tea u amba nga muri we wa vha u tshi khou t̄odou remiwa. Vha tea u t̄alutshedza zwiitisi zwauri muri u remiwe. Ndi zwa ndeme uri vhagudi vhoḁhe vha wane tshikhala tsha u amba tshi linganaho.

Mushumo: Kha vha t̄ut̄uwedze vhagudi uri vha ole tshifanyiso tsha muri wo aḁwaho mitshelo. Kha vha vha livhuwe musi vha tshi vha nea mushumo.

U ḁwala: Vhagudi vha ḁwalulula maipfi o ḁwalwaho kha zwithoma.

Ngudo ya 9: U fhaḁa nḁu yavho nḁha ha tombo

Mugudisi/Muthusi: Vhagudi vha ita mushumo une wa vha buguni dzavho. Vha nga dovha hafhu vha vha nea mafhungo a siho buguni dzavho. Kha vha vha t̄ut̄uwedze u vhumba mafhungo avho. Kha vha vha anetshele nga ha tshiḁori tsha munna wa tsilu we a fhaḁa nḁu yawe muḁavhani.

U amba: Vha amba nga tshaka dzo fhambanaho dza dzinḁu na u tsireledzea hadzo.

- Dzirandavhula
- Madennde
- Mikhukhu
- Nḁu dza zwidina
- Nḁu dza mabulannga
- Nḁu dzo fulelwaho nga mahatsi

Mushumo: Vha shumisa mabogisi a zwienda, makhadibodo, guḽuu, tshigero na zwiḽwe zwišhumiswa uri vha ite mushumo wavho.

U imba: Kha vha vha funze luimbo nga munna wa muḽali.

U ḽwala: Vha fhedzisa mafhungo o ḽwalwaho kha zwithoma.

Ngudo ya 10: Vhasidzana vha fumi

Mugudisi/Muthusi: Kha vha vhalele vhagudi tshiḽori vha dovhe vha ḽalutshedze ngudo yatsho. Vha nga nanga vhagudi vha fumi vha vha ḽuḽuwedza u tamba tshiḽori tsha Bivhilini tshe vha tshi vhala. Kha vha ite mbone nga mabambiri.

Kha vha ḽalutshedze maipfi a fanaho na a tevhelaho:

- U ḽalifha
- U fhura
- U tsa
- Muhwe
- Munyanya

Mushumo: Kha vha ḽuḽuwedze vhagudi u ita watshi nga mabambiri vha dzi dzhenise zwitanda.

Luambo: Vha tea u amba nga maipfi maswa e vha a wana musi vha tshi khou guda. Vha nga amba nga maḽwe maipfi a sa wanali kha tshiḽori itshi.

U vhalela: Vha tea u ḽwala ḽdowedzo ya u vhalela i wanalaho buguni dzavho.



Vha songo ḽavhanyela u fhedza bugu iyi. Vha tea u konḽelela vhagudi vhavho arali vha wana uri vha a lenga u pfesesa zwine vha guda. Kha vha shume nga luvhilo lwa vhagudi lwa u guda. Vha songo hangwa u vha ḽuḽuwedza na u vha livhuwa arali vha tshi khou guda zwavhuḽi. Vha songo hangwa zwaui vha guda nga u tamba na u rabela!